



سوال

(132) سینہ پر ہاتھ باندھنا نماز میں نبی سے ثابت ہے یا نہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

صدر یعنی سینہ پر ہاتھ باندھنا نماز میں نبی ﷺ سے ثابت ہے یا نہیں۔ ینواتوجروا

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سینہ پر ہاتھ باندھنا نماز میں صحیح احادیث سے آنحضرت ﷺ کا ثابت ہے۔

”یحییٰ بن یساف نے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ نے دائیں بائیں جانب سلام پھیرا اور اپنے ہاتھ نماز میں سینہ پر رکھے دایاں بائیں پر جوڑ کے قریب رکھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ”آپ مسجد کی طرف تشریف لے گئے پھر تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے پھر دایاں بائیں پر اپنے سینے پر باندھ لیا۔“ (سید محمد نذیر حسین)

[فتاویٰ نذیریہ](#)

جلد 01